



آية الكرسي

لغوی وضاحت

<p>زندہ، زندہ دل، باقی۔ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے (living, lively, lasting, form Sifat Mushabbah)</p> <p>﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ (6-95)</p> <p>وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے</p> <p>جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو تو معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوگا جس کی نہ ابتدا معلوم نہ انتہا۔</p>	<p>الْحَيُّ</p> <p>(ح ی ی)</p> <p>صفت مشبہہ</p>
<p>صیغہ مبالغہ۔ وہ ذات جو خود قائم رہنے والی ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہو۔ خواہ موجود باقی ہے۔</p> <p>Hyperbolic form – The being who is self-subsisting and sustainer of all that exists.</p> <p>اور دوسروں کو ضروریات ہستی و درستی عطا کرنے والی ہے جس کو ہر چیز اپنے وجود و بقاء و نشوونما کے لئے محتاج ہے۔</p>	<p>الْقَيُّومُ</p> <p>يُرْوِنُ فَيُعْوَلُ</p> <p>اسم مبالغہ</p>
<p>سِنَّةٌ - اُونُكْهَ اَنَا۔۔ غنودگی۔ غفلت۔ و سن یوسن (باب سمع) کا مصدر ہے۔</p>	<p>سِنَّةٌ</p> <p>(و س ن)</p>
<p>تَوَّماً : اسم۔ نیند۔ نام (ف) تَوَّماً : نیند کرنا، سونا۔</p>	<p>تَوَّماً</p> <p>(ن و م)</p>
<p>مُكْرَسِيٌّ : بیٹھنے یا جمنے کی جگہ، کرسی، تخت حکومت</p>	<p>مُكْرَسِيٌّ</p> <p>(ک ر س)</p>
<p>عَلِيٌّ : (فَعِيلٌ کے وزن پر صفت مشبہہ): ہمیشہ اور ہر حال میں بلند، بالاتر۔</p>	<p>الْعَلِيُّ</p> <p>(ع ل و)</p>
<p>(فَعِيلٌ کے وزن پر صفت مشبہہ) بمعنی بزرگ۔ بڑا۔ بڑی عظمت والا۔ بڑی شان والا۔</p>	<p>الْعَظِيمُ</p> <p>(ع ظ م)</p>